

ترجمہ: اللہ کے شایانِ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ وہ پاک ہے، جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے "ہو جا" اور وہ ہو جاتا ہے۔

وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝۳۶

ترجمہ: اور بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب، پس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔

سُورَةُ طه

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝۲۵

ترجمہ: اُس نے کہا، اے میرے رب! میرا سینہ کھول دے۔

وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۝۲۶

ترجمہ: اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے۔

وَاخْلَعْ غَنَدَةً مِّن لِّسَانِي ۝۲۷

ترجمہ: اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔

يَفْقَهُوا قَوْلِي ۝۲۸

ترجمہ: تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔

وَاجْعَلْ لِّي وَاوِيلًا مِّنْ أَهْلِي ۝۲۹

ترجمہ: اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک مددگار بنا دے۔

هَارُونَ أَخِي ۝۳۰

ترجمہ: ہارون، جو میرا بھائی ہے۔

أَشَدُّ بِهِ أَزْرِي ۝۳۱

ترجمہ: اس کے ذریعے میری کمر مضبوط کر دے۔

وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ۝۳۲

ترجمہ: اور اسے میرے کام میں شریک کر دے۔

كِي تُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ۝۳۳

ترجمہ: تاکہ ہم تیری بہت زیادہ تسبیح کریں۔

وَنَذُكْرَكَ كَثِيرًا ۝۳۴

ترجمہ: اور تجھے بہت یاد کریں۔

إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ۝۳۵

ترجمہ: بے شک تو ہمیشہ سے ہمیں دیکھ رہا ہے۔

قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ ۝۳۶

ترجمہ: اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ! تمہاری دعا قبول کر لی گئی۔

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ۝۳۷

ترجمہ: اور ہم نے پہلے بھی تم پر اپنا فضل کیا ہے۔

سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا

مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۝۳۰

کیا کافروں نے غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین آپس میں جڑے ہوئے

تھے، تو ہم نے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز بنائی۔

کیا پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے؟

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيًا أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ

يَهْتَدُونَ ۝۳۱

اور ہم نے زمین میں مضبوط پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ انہیں لے کر نہ ڈولے،

اور ہم نے اس میں راستے بنائے تاکہ وہ ہدایت پا سکیں۔

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا ۖ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ۝۳۲

اور ہم بے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا، مگر وہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑ رہے ہیں۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۗ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ
○۳۳

اور وہی بے جس نے رات اور دن، سورج اور چاند کو بنایا۔ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۖ أَفَأَن مَّتَّ فَهَمُ الْخَالِدِينَ ○۳۴

اور ہم نے تم سے پہلے کسی انسان کو ہمیشہ کے لیے نہیں رکھا، تو اگر تم فوت ہو جاؤ گے تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۗ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ○۳۵
ہر جان دار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں آزمائش کے طور پر کبھی بُرے اور کبھی اچھے حالات میں ڈال کر پرکھتے ہیں، اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

سورة الحج

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفَلَكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ
وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ
رَّحِيمٌ ○۶۵

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے تابع کر دیا ہے، اور کشتیاں بھی اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں، اور وہی آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ کہیں زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا مہربان اور رحمت والا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ۝٦٦
 اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر
 وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ وَإِنِّي إِلَى رَبِّكَ
 إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٌ ۝٦٧

ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے جسے وہ اختیار
 کرتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ اس معاملے میں آپ سے جھگڑا نہ کریں۔ اور
 آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں۔

وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝٦٨
 اور اگر وہ آپ سے جھگڑیں تو کہہ دیجئے: اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو
 کچھ تم کرتے ہو۔

اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝٦٩
 اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا جس میں تم اختلاف
 کرتے تھے۔

سُورَةُ الْفُرْقَانِ

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ
 قَالُوا سَلَامًا ۝٦٣

اور رحمان کے (سجے) بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں
 اور جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ سلامتی کا کلمہ کہتے
 ہیں۔

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ۝٦٤
 اور وہ جو راتیں اپنے رب کے سامنے سجدہ اور قیام میں گزارتے ہیں۔

إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝٦٦

یے شک وہ بہت ہی بُری ٹھکانے اور رہنے کی جگہ ہے۔

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۝٦٧

اور وہ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل، بلکہ اعتدال کے ساتھ (درمیانہ راستہ) اختیار کرتے ہیں۔

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۝٦٨

اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں پکارتے، اور نہ کسی جان کو ناحق قتل کرتے ہیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے، اور نہ ہی بدکاری کرتے ہیں۔ اور جو کوئی یہ کام کرے وہ سزا پائے گا

يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ۝٦٩

قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دوگنا کر دیا جائے گا اور وہ اس میں ذلیل ہو کر ہمیشہ رہے گا۔

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝٧٠

سوائے اس کے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے، تو ایسے لوگوں کی برائیاں اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۝٧١

اور جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو وہ حقیقت میں اللہ کی طرف سچی توبہ کرتا ہے۔

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ۝٧٢

اور وہ جو جب اپنے رب کی آیات کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے تو ان پر اندھوں اور بہدوں کی طرح نہیں گرتے (بلکہ سمجھ کر مانتے ہیں)۔

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۝٧٤

اور وہ جو دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔

أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ۝٧٥

یہی لوگ بلند مقام (جنت کے بالا خانوں) کے بدلے میں نوازے جائیں گے کیونکہ انہوں نے صبر کیا، اور وہاں انہیں سلام اور دعا کے ساتھ خوش آمدید کہا جائے گا۔

خَالِدِينَ فِيهَا حَسَنَتٌ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝٧٦

وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی اچھا ٹھکانا اور رہنے کی جگہ ہے۔

قُلْ مَا يَغْبُونَ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دَعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ۝٧٧

آپ کہہ دیجیے کہ میرا رب تمہاری پروا نہ کرتا اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتیں، سو تم نے تو جھٹلا دیا ہے، سو اب (عذاب) تم سے لازماً چمٹ کر رہے گا۔

سُورَةُ الْأَحْقَافِ

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝١٣

یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝١٤

یہی لوگ جنت والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ ان کے اعمال کے بدلے میں ان کو دیا جائے گا۔

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۚ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كَرْهًا وَوَضَعَتْهُ كَرْهًا ۚ وَحَمَلُهُ
وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ
أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا
تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کی تاکید کی۔ اس کی ماں نے اسے مشقت کے ساتھ اٹھائے رکھا اور مشقت کے ساتھ اسے جنا۔ اور اس کا حمل اور دودھ چھڑانا (کل ملا کر) تیس مہینے ہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچتا ہے اور چالیس سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو کہتا ہے: اے میرے رب! مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس انعام کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور ایسا نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا دے۔ بے شک میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں یقیناً فرمانبرداروں میں سے ہوں۔